

آپ کیلئے دوسرے راسے
کھلے ہں



آپ کیلئے دوسرے راستے کھلے ہں

سب لوگوں کو تشدد اور دھمکیوں کے خوف سے پاک زندگی کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے تو آپ کو اپنا خودمختارانہ اقامتی اجازت نامہ مل سکتا ہے۔ آپ کو ناروے کے اقامتی اجازت نامے سے محرومی کے ڈر سے اپنے رشتے کو برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

کن لوگوں کو اقامتی اجازت نامہ مل سکتا ہے؟

- آپ اپنے شوہر/بیوی یا بغیر شادی کے پارٹنر کے ساتھ رہنا چھوڑ چکے ہوں۔
- اس بارے میں کوئی تقاضا نہیں ہے کہ آپ کو ناروے رہتے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہونا چاہیئے۔
- آپ کا شوہر/بیوی یا بغیر شادی کے پارٹنر خود نارویجن، نارڈک ہو، مستقل اقامتی اجازت نامہ رکھتا ہو یا ایسا اقامتی اجازت نامہ رکھتا ہو جو مستقل بن سکتا ہے۔
- آپ کو یا آپ کے بچے کو آپ کے شوہر/بیوی یا بغیر شادی کے پارٹنر نے ناروے میں تب بدسلوکی کا نشانہ بنایا ہو جب آپ لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ لوگ اکٹھے رہتے تھے۔

بدسلوکی سے کیا مراد ہے؟

بدسلوکی سے مراد دھمکیوں کا استعمال، جبر، تشدد یا کسی شخص کی آزادی سلب کرنا ہے۔ بدسلوکی جسمانی، نفسیاتی یا جنسی نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ جب ہمیں یہ غور کرنا ہو کہ آیا آپ کو بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا ہے تو ہمارے لیے یہ معلومات متعلقہ ہو سکتی ہیں کہ مثلاً:

اجازت نامہ ملنے کیلئے بنیادی اصول یہ ہے کہ واقعات سنگین ہوں یا بار بار ہوئے ہوں۔ اگر تشدد کے واقعات کم سنگین ہوں تو ضروری ہے کہ یہ واقعات کئی دفعہ ہوئے ہوں اور ایک طور طریقہ کا حصہ ہوں۔

اگر آپ کے پاس بدسلوکی بیان کرنے والے کاغذات ہوں یا دوسرے افراد کے خطوط ہوں جن میں آپ کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر ہو تو آپ انہیں اپنی درخواست کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس بدسلوکی بیان کرنے والے کوئی کاغذات نہ ہوں تو یہ کافی ہے کہ آپ اجازت نامے کی درخواست کے سلسلے میں انٹرویو دیتے ہوئے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ اہم ہے کہ آپ ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بتائیں جن کا آپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ بھی بتائیں کہ یہ کب اور کیسے ہوا، اور آپ پر اس کا کیا اثر پڑا ہے۔ یہ تقاضا نہیں کیا جاتا کہ آپ نے بدسلوکی کی پولیس رپورٹ درج کرائی ہو۔

- آپ کو دھکے دیے گئے
- آپ کے بال کھینچ گئے
- آپ کو مارا گیا
- آپ کو ٹھوکریں ماری گئیں
- آپ کو دھمکیاں دی گئیں (صاف اور کھلم کھلا یا گھما پھرا کر)
- آپ کو جنسی افعال پر مجبور کیا گیا
- آپ کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا
- آپ کے ساتھ دیگر جنسی زیادتی ہوئی
- آپ پر روک ٹوک یا نگرانی رکھی گئی
- آپ کو گھر کے اندر بند کیا گیا یا آپ کو گھر سے نکال کر دروازہ بند کیا گیا
- آپ کو رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ رابطہ رکھنے سے روکا گیا
- آپ کو معاشرے میں آزادانہ حرکت سے روکا گیا مثال کے طور پر نارویجن زبان کی تعلیم میں شریک ہونے سے روکا گیا
- آپ کو برے الفاظ سے پکارا گیا
- آپ کو نظرانداز کیا گیا
- آپ کو الگ تھلگ رکھا گیا
- آپ کو خوراک سے محروم رکھا گیا
- اپنے خیالات کے اظہار سے روکا گیا

دوسری قسموں کے اقامتی اجازت نامے بھی پائے جاتے ہیں

• اگر یہ تقاضا کرنا نامناسب ہو کہ آپ اپنے وطن واپس جائیں، مثال کے طور پر اس وجہ سے کہ وہاں طلاق یافتہ کے طور پر زندگی گزارنا مشکل ہے، تو آپ کو اس بنا پر اقامتی اجازت نامے کا حق مل سکتا ہے۔

• نہایت خاص صورتوں میں آپ کو انسانی ہمدردی کے شدید تقاضوں کی بنیاد پر اقامت کی اجازت مل سکتی ہے۔

• اگر آپ کو اپنے وطن میں تشدد اور بدسلوکی کا نشانہ بنائے جانے کا ڈر ہو تو آپ پناہ (اسائلر) کی درخواست دے سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اقامتی اجازت ناموں کیلئے دوسرے تقاضے بھی لاگو ہوتے ہیں۔

مزید تفصیل یہاں پڑھیں: udi.no/vold

• اگر ناروے میں آپ کا بچہ ہو جو آپ کے ساتھ رہتا ہو یا جس کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہو تو آپ بچے کے ساتھ فیملی ری یونین کی درخواست دے سکتے ہیں۔

• اگر آپ کی شادی کو اس وجہ سے غیر قانونی اور غیر مؤثر قرار دیا جائے کہ آپ پر شادی کرنے کیلئے دباؤ ڈالا گیا تھا یا آپ کو مجبور کیا گیا تھا (جبری شادی) تو اس بنا پر آپ کو اپنے خودمختارانہ اقامتی اجازت نامے کا حق مل سکتا ہے۔

• اگر اس شخص کو ناروے میں پناہ ملی ہو جس کے ساتھ آپ بطور اہل خانہ آئے تھے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس پہلے ہی اپنا خودمختارانہ اقامتی اجازت نامہ ہو۔

• اگر آپ کے پاس یورپین یونین/یورپین اکنامک زون کے شہریوں کے اہل خانہ کا اقامتی کارڈ ہو اور آپ کو بدسلوکی کا نشانہ بنایا جائے تو آپ کو ناروے میں مزید رہنے کا حق حاصل ہو سکتا ہے۔